

## اسلام میں ملکیت

ابو القاسم گرجی

ترجمہ : ڈاکٹر سید علی رضا نقوی

لغت میں ملکیت کے متعدد معنی ہیں جن میں فقهاء کی تعریفات کرے پیش نظر سب سے مناسب، "کسی شے پر حاوی ہونا یا غلبہ پانا" (۱) ہے۔

فقہاء نے ملکیت کی تعریف میں مختلف تعبیرات دی ہیں مثلاً :  
کسی شے کا اس طرح ہونا کہ خود اس سے اور اس کے عوض سے استفادہ کیا جاسکے (۲)، ، مالک اور مملوک کے درمیان نسبت (۳)، ، مالک کا مملوک پر تسلط یا خاص تعلق جو مذکورہ تسلط کا موجب ہو (۴)، ، کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ مخصوص ہونا (۵)، ، "مالک کے مملوک پر محیط ہونے کا اعتبار" (۶)، ، مالک کے مملوک پر تسلط کی حالت" (۷)، وغیرہ ، لیکن ظاہراً یہ تعبیری اختلاف ماهیت میں اختلاف کا موجب نہیں ہے اور ان سب کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے مالک کا مملوک پر تسلط۔

البتہ مالک کا مملوک پر تسلط کئی مراتب کا حامل ہے جن میں صرف ایک مرتبہ ہی یہاں قابل بحث ہے۔ وہ مراتب حسب ذیل ہیں :

۱ - حقیقی اور کامل تسلط : اس کا مصداق صرف خدائی تعالیٰ کا موجودات پر تسلط ہے - وہ علت اور قیوم ہے اور دوسری اشیاء معلول اور متنقّم . سب موجودات حدوث و بقاء میں خداوند تعالیٰ کی محتاج ہیں - معکوس تشبیہ کی رو سے خداوند تعالیٰ کا تسلط موجودات پر نفس کے تسلط کی طرح ہے صورتوں پر کہ جن میں وہ ظاہر ہوتا ہے - یہ تسلط پوری طرح اور کامل طور پر اصلی اور حقیقی ہے اور ہماری بحث کے موضوع سے خارج ہے -

۲ - انسان کا خود پر اپنے افعال اور ذمہ داری پر تسلط : جیسا کہ خدائی تعالیٰ کے کلام میں وارد ہوا ہے :

“ اتی لا املک الانفسی (۸) ”

(میں مالک نہیں ہوں سوائے اپنے نفس کا )

اس قسم کا تسلط اگرچہ اصلیت اور حقیقت میں پہلی قسم کے تسلط کی طرح نہیں ہے لیکن اسی کی مانند تکوینی تسلط ہے اور ہماری موجودہ بحث کے موضوع سے خارج ہے - البتہ اس لحاظ سے کہ اس تسلط کی بنیاد پر انسان خود کو کسی دوسرے کی مطلق اجرت میں دے سکتا ہے ، یا اپنے افعال میں سے کسی خاص فعل کو کسی دوسرے کو کرایہ پر دے سکتا ہے یا کسی چیز کو اپنی ذمہ داری پر کسی کے ہاتھ فروخت کر سکتا ہے ، اس لحاظ سے یہ قسم بعض قانونی احکام کا موضوع قرار پاتی ہے -

۳ - فلسفیانہ ملکیت : جس کو „ جدہ ” اور „ لہ ” سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور اس کو نو قسم کے عرضی مقولات میں شمار کرتے ہیں - اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں : „ ایسی ہیئت ہے جو ایک جسم پر دوسرے جسم کے محدود ہوئے سے ظاہر ہوتی ہے اس طرح کہ احاطہ کرنے والے کی حرکت سے وہ شے بھی جس کو احاطہ کیا گیا ہے حرکت

میں آ جاتی ہے)، جیسے لباس پہننا، انگوٹھی پہننا یا قمیص پہننا، جو ایک ایسی ہیئت ہے کہ لباس، انگوٹھی اور قمیص کر احاطہ سر بدن اور انگلی میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ قسم بھی ایک حقیقی امر ہے لہذا یہ بھی ہماری بحث کر موضوع سر خارج ہے۔

۲ - قانونی ملکیت: جو عبارت ہے کسی (مالک) کر کسی چیز (ملوک) پر تسلط اور احاطہ کی کیفیت سر - ظاہر ہے کہ یہ قسم اعتباری امر ہے جو کہ عقل مند لوگوں نے معاشرے کی ضرورت کر مطابق حقیقی اشخاص یا قانونی شخصیتوں کیلئے تعبیر کیا ہے اور مقدس شارع نے بھی ان کو بیع، تجارت، عقد، میراث، وصیت اور دوسری ادله کر بموجب جائز شمار کیا ہے، بلکہ کبھی کبھی عرف اور معمول کے خلاف موقع پر بھی ان کی بنا رکھی ہے جیسے غرق ہونے والوں یا ملبہ میں دب جانے والوں کی ملکیت میراث کرے موقع پر، مقتول کی ملکیت دیت کرے معاملہ میں۔ لہذا ایسے اشخاص سے میراث کی ادله کرے مطابق میراث ان کرے ورثاء کو منتقل ہوتی ہے۔

قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ چونکہ اس قسم کی ملکیت خارج میں اصلی غرض نہیں ہے، لہذا حقیقی مالک و مملوک کی بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ ایک اعتباری امر ہے لہذا وہ بھی ایک کلی یا اعتباری امر ہو سکتی ہے، جیسے وہ اراضی جو طاقت کے ذریعہ فتح کی گئی ہو جس کی مالک تمام مسلمان قوم ہوتی ہے یا واجب حقوق جس کر مالک پوری طرح غریب اشخاص ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس قسم کی مثالوں میں عام مدتات کر لئے اوقاف اور وصیتیں وغیرہ ہیں۔ اسی طرح ممکن ہے مملوک بھی ایک کامل یا اعتباری امر ہو، جیسے قرضہ کی بیع جس معاملہ میں بیچنے والا کلی مالک خریدار کی ذمہ داری پر ہوتا ہے یا بیع سلف جس معاملہ میں

خریدار کلی مالک بیچنے والے کی ذمہ داری پر ہوتا ہے۔ اس بنا پر اس تعلق میں حسب ذیل چار قسم کی ملکیت وجود میں آسکتی ہے:

- ۱ - وہ ملکیت جس میں مالک و مملوک دونوں ایک حقیقی امر ہوتے ہیں، جیسے خاص ذاتی ملکیت کسی خاص گھر، لباس یا کتاب کی نسبت سے۔ اس قسم کی ملکیت نہایت عام مرسوم ہے۔
- ۲ - ایسی ملکیت جس میں مالک اور مملوک دونوں اعتباری امر ہوتے ہیں، جیسے اس متاع کی دولت کی ملکیت جو سلف کے طور پر خریدی ہو یا قانونی غرباء اور سادات کی ملکیت جو دوسروں کے ذمہ ہوتی ہے۔
- ۳ - ایسی ملکیت جس میں مالک ایک حقیقی شخص اور مملوک ایک اعتباری امر ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کی خاص ذاتی ملکیت جس کو سلف کے طور پر خریدا ہو۔
- ۴ - ایسی ملکیت جس میں مالک قانونی شخصیات اور مملوک شرے حقیقی امر ہوتی ہے، جیسے حکومت کی ملکیت یا کسی خاص چیز میں شرکت جس کو خریدا گیا ہو۔

اس بات میں کہ ان سب اقسام کو مقدس شارع نے جائز قرار دیا ہے فی الجملہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ ان اقسام کے بعض مصداقوں میں بعض فقهاء کی نظر میں اشکال واقع ہوا ہے جیسے حکومت کی ملکیت۔ حق بات یہ ہے کہ تمام معاملات کو جن کو عقلاء نے قبول کر لیا ہے جب تک کہ کوئی معتبر دلیل ان کے عدم جواز کی شارع کی طرف سے موجود نہ ہو مطلقاً اور عام طور پر صحیح معاملات میں شمار کیا جائز اور اس میں کسی قسم کی اشکال موجود نہیں ہے۔

## اعتباری ملکیت کے مراتب

ملکیت کے ملکوں کے ساتھ تعلق کر لحاظ سر نین مرتبہ ہوتے ہیں : عین کی ملکیت، منفعت کی ملکیت اور انتفاع کی ملکیت - ۱ - عین کی ملکیت : جیسے گھر، کتاب وغیرہ کی ملکیت۔ پہلے ملکیت کی تعریف کے تحت معلوم ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا چاہئے کہ عین کے کیا معنی ہیں -

عین کے لفظ میں متعدد معنی ہیں - ہماری بحث کے موضوع کے لئے سب سے مناسب معنی " کسی شے کی ذات " ہیں (۱۰) -

اصطلاح میں بھی اس لفظ کے متعدد معنی مذکور ہیں :

اول : فلسفیانہ اصطلاح میں ایسی چیز جو خارجی تعین اور تشخض رکھتی ہو۔ لہذا خارجی وجود کو عینی وجود یا اعیان میں وجود کہتے ہیں ، جو ذہنی وجود کے مقابلہ میں ہوتا ہے - ہماری موجودہ گفتگو میں بے شک یہ معنی مقصود نہیں ہیں - کیونکہ یہاں عین میں جزوی بھی شامل ہوتا ہے اور کلی بھی شامل ہوتا ہے - لہذا اگرچہ مبیع (فروخت شدہ شے) میں عینیت کا اعتبار ہوتا ہے اور بیع کی تعریف میں " عین کی ملکیت " کو اجارہ (کرایہ) کے مقابلہ میں جو " منفعت کی ملکیت " ہوتا ہے اختیار کیا گیا ہے ، اس کے باوجود کہا گیا ہے کہ مبیع (فروخت شدہ شے) جزوی بھی ہو سکتی ہے اور کلی بھی ہو سکتی ہے - اس وجہ سے عین سے مقصود فلسفیانہ اصطلاح نہیں ہو سکتی -

دوسرے : وہ اصطلاح ہے جو فقهاء مثل اور قیمت کے مقابلہ میں استعمال کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں : اگر غصب کی ہوئی یا قبضہ کی ہوئی شے فاسد عقد کے بعد باقی ہو تو اس کا عین مالک کو واپس کرنا چاہئے - یہاں عین سے مقصود خود چیز ہے جنکہ ہماری موجودہ

بحث میں یہ معنی مقصود نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ معنی مثل کر مقابلہ میں عین کیلئے مناسب ہیں، لیکن منفعت کر مقابلہ میں عین کر لئے مناسب نہیں ہیں -

تیسرا: عین قرض کرے مقابلہ میں یا قرض اور منفعت دونوں کیلئے مثلاً کہتے ہیں رہن کی ہوتی شر عین چاہیئے اور اسی اعتبار سے، " رہن کی ہوتی عین " کہتے ہیں، یعنی قرض یا منفعت کو رہن نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ معنی بھی ہماری موجودہ بحث میں مقصود نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگرچہ مبیع (فروخت شدہ شر) میں عینیت کی شرط لگانی گئی ہے اس کے باوجود کلی بیع کو جو ذمہ ہو جائز سمجھا گیا ہے -

چوتھی: کبھی عین عقد اور شخص کرے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے مثلاً کہتے ہیں : حق کبھی عین سے تعلق رکھتا ہے اور کبھی شخص سے، جیسے تججیر (محجور کرنے) کا حق، خیار کا حق اور قصاص کا حق۔ ہماری موجودہ بحث میں ان معنی میں بھی استعمال نہیں ہوا ہے، کیونکہ عین میں ان معنی میں اکثر منفعت اور انتفاع کرے معنی بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی یہ صحیح ہو گا اگر اجارہ (کرایہ) اور عاریہ کے معاملہ میں کہا جائے۔ مستاجر کا اور جس سے عقد عاریہ کیا گیا ہو اس کا حق عین سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ عقد یا شخص سے، جبکہ ہماری موجودہ بحث میں عین منفعت اور انتفاع کے مقابلہ میں آیا ہے -

پانچویں: کوئی چیز اگر خارج میں وجود رکھتی ہو تو یہ مادی امر ہے اور خود سے قائم، اس طرح کہ کلی بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں عین میں ان معنی میں ضروری نہیں ہے کوئی شر خارج میں وجود رکھتی ہو، ضروری یہ ہے کہ وجود کی حالت میں

ایک مادی امر زمان و مکان میں وجود رکھتا ہو اور خود سر قائم ہو، خواہ جزئی ہو یا کلی ۔ عین سر مقصود ملکیت کی تعبیر میں یا بیع کی تعریف میں عین کی ملکیت کر بھی معنی ہیں منفعت ، حق وغیرہ کر مقابله میں ۔

۲ - منفعت کی ملکیت : منفعت نفع سے اسم مصدر ہے اور لغت میں خیر یا اس چیز کے معنی میں ہے جو انسان اس کرے وسیلہ سے اپنے مطلوب کو پاتا ہے ۔ اس لفظ کے لئے نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی خاص اصطلاح موجود ہو، لیکن اس کے استعمال کے موقع میں غور کرنے سے خاص طور سے اجرہ اور عاریہ کرے باب میں کہا جا سکتا ہے : منفعت ایسے خواص کو کہتے ہیں جو عین سر قائم ہو اور اس کی مالیت یا مالیت میں اضافہ کا موجب ہو، خواہ یہ خواص شر کیلئے تکوین کرے طور پر موجود ہو جیسے کھر میں رہنا، لباس پہنانا، کتاب کا مطالعہ وغیرہ، خواہ اس شر کیلئے وضع کئے گئے ہوں یا تعبیر ہونے ہوں جیسے کرنٹی نوٹوں اور دوسری قیمتی سندات سے استفادہ کرنا، اس وجہ سے منفعت کی ملکیت، عقد اجارہ میں اجارہ کی ہونی عین کے منافع کی ملکیت کی طرح ہے ۔

منفعت کی دو قسمیں :

اول: ایسی منفعت جو رفتہ وجود میں آتی ہے اور جب تک اس کا ایک جزء ختم نہ ہو جائز دوسرا جزء وجود میں نہیں آتا جیسے سکونت خانہ ۔

دوم: ایسی منفعت جو رفتہ ہی وجود میں آتی ہے لیکن اس کے اجزاء باقی رہتے ہیں اور ایک دوسرے میں ضم ہو کر بالآخر خارجی عین کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جیسے درخت کا پہل، جانور کا دودھ وغیرہ ۔

معمول کر طور پر پہلی قسم اجارہ عین کر طور پر دوسروں کے  
قبضہ میں آتی ہے لیکن دوسری قسم ممکن ہے اجارہ عین کر ذریعہ  
دوسروں کی ملکیت میں آجائے، جیسے باغ یا جانور جو میوہ یا دودھ  
کی ملکیت کیلئے کرایہ پر دیا جائے، اور ممکن ہے منفعت کی خارجی  
عین کی صورت میں مبدل ہو جائز پر عین بیع وغیرہ کر ذریعہ  
دوسروں کی ملکیت میں چلی جائے -

۳۔ انتفاع کی ملکیت : انتفاع کی ملکیت کی حقیقت سمجھنے  
کیلئے، جس کو انتفاع کا حق بھی کہتے ہیں، یہ سمجھنا چاہیئے کہ  
انتفاع کس چیز کو کہتے ہیں - انتفاع جو باب انتقال کا مصدر نفع  
سرے بنے ہے عبارت ہے منفعت حاصل کرنے اور دوسری تعبیر کے مطابق  
منفعت کو قوت کی حالت سے فعل کی حالت میں لانے سے -  
عین سے انتفاع کی دو قسمیں ہیں :

پہلی: وہ قسم جو خود عین کر زوال اور خاتمه کا باعث ہوتی ہے  
جیسے کھانے پینے کی چیزوں سے انتفاع - اس قسم کے انتفاع میں اس  
کی ملکیت خود عین کر قبضہ یا اباحت کر سوا صورت پذیر نہیں ہو  
سکتی -

دوسری: وہ قسم جو ایسی نہیں ہے، جیسے گھر میں سکونت کر  
ذریعہ انتفاع، کتاب کا مطالعہ، لباس کا پہننا وغیرہ - اس قسم کے  
انتفاع کو جہاں تک ممکن ہے بالواسطہ طور پر عین کر تملک یا  
اباحت کر ذریعہ ملکیت میں لیا جا سکتا ہے یا منفعت کر تملک یا  
اباحت کر ذریعہ اس کا مالک ہوا جا سکتا ہے، بلاواسطہ عاریہ،  
صلاح وغیرہ کر ذریعہ خود انتفاع کو ملکیت میں لا یا جا سکتا ہے -  
اکثر اوقات حبس، سکونت، عمری (آباد کرنا) اور رقبی (غلام بنانا)  
بھی اس قسم کے انتفاع کی ملکیت کر ذریعہ ہوتا ہے -

عین سر فائدہ اٹھانا اس لحاظ سر کے فائدہ اٹھانے والے سر قائم ہے انتفاع، اور اس لحاظ سر کے عین سر قائم ہے منفعت کھلاتا ہے۔ اگر اجارہ کرے بارے میں کہیں مستاجر منفعت کا مالک ہوتا ہے تو اس سر مقصود یہ ہے کہ مستاجر ایسی حیثیت کا مالک ہوتا ہے جو خود عین سر قائم ہے اور گھر کرے معاملہ میں سکونت اور کتاب کرے معاملہ میں پڑھنے سر تعبیر ہوتی ہے۔

ظاہر ہے یہ معنی دوسرے کی طرف قابل انتقال ہونے کے معنوں میں سر ہیں، لہذا فقهاء کا خیال ہے کہ اگر مالک نے منع نہ کیا ہو تو مستاجر اس منفعت کو جس کا وہ مالک ہوا ہے دوسرے کو منتقل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسی چیز کا مالک ہے جس کے دوسرے تک منتقل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

لیکن عاریہ کرے موقع پر معاملہ ایسا نہیں - جس شخص کو عاریہ کیا گیا ہو منفعت کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ انتفاع کا مالک ہوتا ہے یعنی ایسی حیثیت کا مالک ہوتا ہے جو خود اس سر قائم ہوتی ہے اور اس کو گھر میں سکونت یا کتاب کرے مطالعہ سر تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ایسی چیز دوسرے کو منتقل نہیں ہو سکتی - البتہ بلند تر مراتب کا مالک جس طرح خود بلا واسطہ انتفاع پر قبضہ کر سکتا ہے اسی طرح اس شخص کے ذریعہ جس کو عاریہ کیا گیا ہو اس عمل کو انجام دے سکتا ہے۔

سطور بالا میں عرض کیا گیا کہ ملکیت کی مختلف اقسام میں سر دو قسمیں قانونی نتائج کا موجب ہوتی ہیں :

پہلی قسم : وہ ملکیت ہے جو تکوینی امر ہے اور معتبر کے اعتبار کی محتاج نہیں ہے اور وہ انسان کا تسلط ہے خود پر اور اپنے اعمال اور اپنے ذمہ چیزوں پر۔ انسان خود کو اجارہ کرے بغیر دوسرے کے

اختیار میں دے سکتا ہے۔ عمل یا اپنے ذمہ چیزوں کو عوض یا بغیر عوض کر دوسرا کر قبضہ میں دے سکتا ہے۔ عقلمندوں نے اس کو قبول کیا ہے اور شارع نے بھی اس سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ قرض، سلف اور افراد کے اجارہ کی ادله کے بموجب اعمال کی انجام دہی کیلئے، مومن کے عمل کے احترام کے قاعدہ (ضمان یا ذمہ داری کیلئے غیر کے عمل کے اجراء کی سببیت) اور قصاص و دیات کے ادله کی رو سے مقدس شارع نے صراحةً کر ساتھ۔ اس تسلط کی تائید کی ہے۔ لہذا مذکورہ تسلط اگرچہ ایک حقیقی امر ہے لیکن بہت سے قانونی نتائج کا موضوع بھی بن گیا ہے۔

دوسری قسم: اعتباری ملکیت ہے جس کو عقلمندوں نے معاشرہ کر مفادات کر پیش نظر معتبر جانا ہے اور درحقیقت یہ وہی فلسفیانہ ملکیت ہے جس کو وہ „جده“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ قسم بھی دو قسم کی ہوتی ہے: ملکیت اولیٰ اور ثانویٰ ملکیت۔

۱۔ ملکیت اولیٰ: وہ ملکیت ہے جو پہلی دفعہ وجود میں آئی ہو اور کوئی دوسری اعتباری ملکیت اس سے پہلے موجود نہیں ہو، جیسے وہ ملکیت جو، «مباحثات» کے قبضہ سے حاصل ہوتی ہے اور عقلمندوں کے حکم اور مقدس شارع کے جواز سے، «من حاز ملک» (جس نے قبضہ کیا وہ مالک ہوا) کے متصدیدہ (مستبینط) قاعدہ (۱۶) کی رو سے معتبر مانا گیا ہے، اور فرضًا اگر روایات کی سند میں شک بھی ہو پھر بھی اس کے بارے میں عقلمندوں کی سیرت اور شارع کی طرف سے عدم ممانعت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔

ملکیت اولیٰ کی دو قسمیں ہیں: اصلی و تابع  
پہلی قسم: (یعنی اصلی ملکیت اولیٰ) ایسی ملکیت ہے جو علاوہ اس کے کوئی دوسری ملکیت اس سے پہلے وجود میں نہیں آئی ہو

دوسری کسی چیز کی ملکیت کرے اتباع میں بھی وجود میں نہیں آئی ہو، جیسے اس پانی کی ملکیت جو دریا سرے لیا گیا ہو، یا وہ لکڑی جو جنگل سرے حاصل کی گئی ہو یا وہ جانور جو صحراء سرے شکار کیا گیا ہو، وغیرہ (۱۲)۔ اصلی ملکیت اولیٰ مواد سرے مخصوص نہیں ہے۔ بعض شکلیں بھی اصلی ملکیت اولیٰ میں مملوک ہو سکتی ہیں، جیسے میز یا کرسی کی شکل جو بڑھنی یا لواہار نہ لکڑی یا لوہہ پر بنائی ہو اور وہ اس کرے پہلے اصلی مالک ہوں۔

اس قسم کی ملکیت ممکن ہے قبضہ کرے نتیجہ میں وجود میں آئی ہو جیسے پہلی مثالیں، یا کسی ایسے عمل کرے نتیجہ میں وجود میں آئی ہو جو قبضہ کرے علاوہ ہو جیسے دوسری مثالیں، یا ممکن ہے قبضہ اور کسی دوسرے عمل کرے نتیجہ میں وجود میں آئی ہو جیسے مثی یا پتھر جس پر قبضہ کر لیا گیا ہو اور اس سرے کوئی برتنا یا عمارت بنائی گئی ہو یا ایسی لکڑی جو جنگل سرے حاصل کی گئی ہو اور اس سرے میز یا کرسی بنائی گئی ہو۔

دوسری قسم : (تابع ملکیت اولی)؛ وہ ملکیت ہے جو پہلی دفعہ وجود میں آئی ہو، لیکن وہ کسی دوسری چیز کی ملکیت کی تابع ہو، جیسے جانوروں کے بچوں یا اموال کے ثمرات جو ان کرے اصل کی ملکیت سرے حاصل ہوتے ہیں۔

۲ - ثانوی ملکیت : وہ ملکیت ہے جو پہلے کسی دوسرے شخص کی ملکیت رہی ہو، جیسے وہ چیز جو بیع، صلح، بخشش وغیرہ کے ذریعہ حاصل ہوئی ہو۔

اس قسم کی بھی دو قسمیں ہیں : اجباری اور اختیاری۔  
پہلی قسم : (اجباری ثانوی یا تابع ملکیت) وہ ملکیت ہے جو میراث، وصیت یا وقف (۱۳) کے ذریعہ اجباری طور پر اور انسان کے اختیار کے بغیر وجود میں آئی ہے۔

دوسری قسم : اختیاری ثانوی یا تابع ملکیت ) وہ ملکیت ہے جو مالک اپنے اختیار سے وجود میں لا یا ہو جیسے وہ ملکیت جو انسان کو بیع، صلح یا اجارہ کرے ذریعہ حاصل ہونی ہو۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں خریدار، صلح کرنے والا اور مستاجر (کرایہ دار) مال کا مالک اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے بنتا ہے ۔

### ملکیت اور مال میں فرق

سطور بالا میں ملکیت کی تعریفات بیان ہو چکی ہے کہ وہ اعتباری تسلط ہے کسی شخص (مالک) کا کسی چیز (مملوک) پر ۔ اب یہ جانتا چاہیے کہ مال کیا ہے ؟

مال وہ چیز ہے جس کی طرف اس کرے واقعی یا اعتباری منافع کر سبب سے عقلمند لوگ راغب ہوئی ہیں اور اس چیز کے مقابلہ میں نقد روپیہ پیسہ وغیرہ ادا کرتے ہیں، جیسے کھانے پینے کی چیز، لباس، کتاب وغیرہ، جو اس سبب سے کہ وہ چیز انسان کو سیر کرتی، سردی گرمی سے محفوظ رکھتی یا مطالعہ کرے ذریعہ مستفید کرتی ہے عقلمندوں کیلئے موجب رغبت واقع ہوئی ہے اور کبھی کبھی وہ اس کو حاصل کرنے کی خاطر اپنے ہاتھ پیر مارتے ہیں ۔ اسی طرح کرنسی نوٹ جن میں اگرچہ واقعی منفعت نہیں ہوتی اس کرے باوجود اس قیمت کے پیش نظر جو عقلمندوں کے نزدیک ان کی ہے اور اس سبب سے کہ واقعی اموال ان کرے عوض حاصل کئے جا سکتے ہیں وہ بھی مال ہی شمار کئے جاتے ہیں ۔

ممکن ہے کہ کوئی چیز باوجود اس کرے کہ مذکورہ اوصاف کی حامل ہو، کرتے سے ہونے کی وجہ سے مالیت سے ساقط ہو جائے جیسے دریا کے کنارے کا پانی، پہاڑ پر پتھر اور اکٹر جگہوں پر ہوا ۔ اسی وجہ سے بعض فقہاء نے ان کرے مال کی تعریف سے اخراج کیلئے

رقبات اور ان کے حصول میں ایک دوسرے پر سبقت لیجانے کی کوشش کر پیش نظر ان کو مال کی تعریف میں بڑھا دیا ہے۔

لہذا مال وہ چیز ہے جو خاص شرائط کی وجہ سے عقلمندوں کی نظر میں قدر و قیمت کی حامل ہو گئی ہو، خواہ وہ کسی سے نسبت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو۔ جبکہ ملکیت ایسا تسلط رکھنا اور محیط ہونا ہے جو کوئی شخص کسی چیز پر رکھتا ہو خواہ وہ چیز بالفعل قیمت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو۔ البته ضروری ہے کہ وہ بالقوہ قیمت رکھتی ہو۔ لہذا مال اور ملکیت میں عموم اور خصوص کے لحاظ سے نسبت ہے۔ کہیں دونوں اوصاف اکٹھا ہوتے ہیں جیسے گھر، موٹر کار، کتاب وغیرہ جو قیمت بھی رکھتی ہیں اور کسی سے منسوب بھی ہوتی ہیں۔ کبھی ملکیت کا وصف جدا ہوتا ہے جیسے سونج چاندی کی کانیں اور کلی طور پر تمام مباحثات قبضہ سے قبل جو قیمت رکھتی ہوں لیکن ابھی کسی نے ان پر قبضہ نہ کیا ہو۔ کبھی مال کا وصف جدا ہوتا ہے جیسے گیوہوں کا دانہ، کھجور کی گتلی، اخروٹ کا چھلکا، جو کسی کی ملکیت میں ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔

### ملکیت اور حق میں فرق

اگر حق کی تعریف اس طرح کریں کہ ”وہ خاص قوت جو کبھی عین چیز سے، کبھی عقد سے اور کبھی ذات سے تعلق رکھتی ہے، جیسے حجر (تصرف مال پر قانونی پابندی) یا خیار یا قصاص کا حق، تو اس صورت میں اگرچہ حق مختلف موقع پر ان تین چیزوں میں سے ایک ہوگا جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن حق سے متعلق تمام موقع پر وہ عمل ہوگا جو ان تین چیزوں میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتا ہو۔ جو شخص حجر (تصرف مال پر قانونی

پابندی) کا حق رکھتا ہو اس کو حجر شدہ زمین کو آباد کرنے کر حق میں اولیت حاصل ہوگی - جس کو عقد میں اختیار (فسخ) حاصل ہو اس کو اختیاری عقد میں حق فسخ ہوگا - اسی طرح مقتول کر ولی کو مجرم کو قصاص کرنے کا حق ہوگا -

اس صورت میں ملکیت اور حق میں فرق بہت صاف ہے - حق ایسا اعتبار ہے جو ہمیشہ کسی ایسے عمل سے متعلق ہوتا ہے جو کسی عین چیز یا ذات یا عقد سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ملکیت اس محیط ہونے یا تسلط رکھنے کو کہتے ہیں جو حقیقت میں عین چیز یا منفعت یا عمل سے تعلق رکھتے ہوں - خریدار خود عین کا ، مستاجر (کرایہ دار) خود منفعت کا اور مستعیر (جس کو عاریہ کیا گیا ہو) انتفاع کا مالک ہوتا ہے -

اگر ہم حق کیلئے کسی خاص اصطلاح کر قائل نہ ہوں اور ہماری رائے میں ہر چیز جو کسی قسم کے ثبوت یا تحقق کی حامل ہو حق ہے خواہ اس کا تتحقق اور ثبوت حقیقی ہو یا اعتباری ، جیسے کہ یہی حق ہے اس صورت میں احکام بھی جو اعتباری وجود کے حامل ہوتے ہیں حق کے مصدق میں شمار کئے جائیں گے - لہذا یہ ملکیت بھی جو وضعی احکام میں سے ہے ، جیسا کہ عنقریب اس کی طرف اشارہ کیا جائز گا ، بے شک حق کے مصدق میں سے ہوگی - ملکیت ایک وضعی حکم ہے

شرعی احکام جو عبارت ہیں شرعی مجعلہ اعتبارات سے ، اگر سیدھے یا بلا واسطہ طور پر فعل یا ترک مکلف سے تعلق رکھتے ہوں واجب ، حرام ، مستحب ، مکروہ یا مباح ہونے کی صورت میں ، تو وہ "تكلیفی احکام" کہلاتے ہیں - اس کے علاوہ دوسری صورت میں "وضعی احکام" کہلاتے ہیں جیسے سبب ، شرط یا رکاوٹ وغیرہ ہونا - ملکیت کا احکام کرے اسی گروہ سے تعلق ہوتا ہے -

اس بارے میں کہ وضعی احکام محدود و محدود ہیں جیسے تین ، پانچ ، سات وغیرہ یا محدود و محدود نہیں ہیں ، بات قطعی نہیں ہے۔ حق بات یہ ہے کہ وہ محدود و محصور نہیں ہیں ، جیسا کہ طہارت ، نجاست ، زوجیت ، آزادی ، غلامی ، ضمانت وغیرہ وضعی احکام میں سر ہیں ، جبکہ وہ محدود و محدود نہیں ہیں ۔

نیز اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وضعی احکام ، تکلیفی احکام کے مقابلہ میں علیحدہ احکام ہیں یا یہ کہ علیحدہ مجعلوں ، تکلیفی احکام ہیں اور وضعی احکام ان سے علیحدہ ہیں ۔ حق بات یہ ہے کہ جیسا کہ ممکن ہے وضعی احکام تکلیفی احکام کے تابع ہوں جیسے ”مکلف بہ“ کا جزو ، شرط یا رکاوٹ ہونا ۔ اسی طرح ممکن ہے کہ تکلیفی احکام وضعی احکام کے تابع ہوں جیسے تکلیف کا شرط ، سبب یا رکاوٹ ہونا ۔ آخر میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ وضعی احکام بھی تکلیفی احکام کی طرح علیحدہ مجعلوں کے تابع ہوں جیسے حجت ، ولایت ، قضاوت ، نیابت ، آزادی ، غلامی ، زوجیت وغیرہ۔ ملکیت بھی اسی قبیل کے وضعی احکام میں سر ہے ۔

#### ملکیت کی بعض تقسیمات کی طرف اشارہ

ملک کی مختلف اعتبار سے مختلف تقسیمات ہیں ۔ ان میں سے سب سے اہم کی طرف یہاں اشارہ کیا جانا ہے ۔ ضمناً چونکہ ملک ، مالک اور مملوک کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے یعنی مال ، لہذا ان تقسیمات میں بعض مال کی تقسیمات کا بھی ذکر ملک کی تقسیم کے طور پر کیا جاتا ہے ۔

#### ۱ - ملک کی تقسیم مالک کے اعتبار سے

۱ - ذاتی ملک : وہ ملک ہے جس کا مالک کوئی فرد ذاتی طور پر ہو جیسے کوئی گھر جو (بالفرض) ذاتی طور پر زید سے متعلق ہو ۔

۲ - خاص ملک : جب مالک ایک یا چند فرد ذاتی طور پر ہوں تو اس ملک کو، «خاص ملک» کہتے ہیں جیسے مذکورہ بالا مثال یا اس صورت میں جب چند اشخاص کسی ملک میں شریک ہوں - اس سب سے خاص ملک ذاتی ملک سے زیادہ عام ہے -

۳ - عام ملک : جب مالک ایک کلی عنوان ہو، اس صورت میں ملک کو عمومی (یا عام) ملک کہتے ہیں جیسے تمام سادات یا غرباء کے واجب حقوق - اس قسم میں کلی عنوان ممکن ہے چند افراد تک منحصر ہو جیسے وقف علی الاولاد - ممکن ہے اس طرح منحصر نہ ہو جیسے پہلی مثال ، یہاں تک کہ ممکن ہے مالک تمام مسلمان ہوں جیسے طاقت کے ذریعہ فتح کی ہونی زمینیں جو تمام مسلمانوں کی ملکیت ہوتی ہیں - اس صورت میں وہ ملک مسلمانوں کے ولی کے اختیار میں ہوتی ہے جو اس کی آمدنی کو تمام مسلمانوں کے مفاد میں خرچ کرتا ہے -

۴ - عوام کے مفاد کی ملک : جب کسی ملک کے مالک حقیقی اشخاص نہ ہوں بلکہ ملک ایسی چیزیں ہوں جو مسلمانوں کے مفاد میں استعمال ہوتی ہیں جیسے مسجدیں، ہسپتال، پل، سڑکیں، مقدس مقامات وغیرہ - ایسی چیزوں کی صورت میں ملک کو عوام کے مفاد کی ملک کہتے ہیں - ظاہر ہے اس صورت میں بھی مملوک چیزیں متولیوں، محافظوں اور ناظموں کے اختیار میں ہوتی ہیں، تاکہ وہ ان کو عوام کے مفاد کی خاطر صرف میں لائیں -

۵ - ملک کی تقسیم مملوک مال کی قسم کے اعتبار سے ملک مملوک مال کے اعتبار سے دو قسم کی ہوتی ہے: مثلى اور قيمتی -

۱ - مثلی ملک: اس مال کو کہتے ہیں جس کی مثال فراوان ہو جو جنس، قسم اور صنف کی خصوصیات کے لحاظ سے برابر ہوں جیسے چھپی ہوئی کتاب، غله جات، مشین سے بنائے ہوئے کپڑے وغیرہ۔ جب ایسے مال کو کسی کی ضمانت میں دیا جائے تو ضامن کا فرض ہوتا ہے کہ اگر خود مال باقی ہو تو اسے واپس کر دے اور اگر تلف ہو جائز تو اس کی مثل مالک کو واپس کرے۔

۲ - قیمتی ملک: وہ مال ہے جو مثلی مال کی خصوصیات کا حامل نہیں ہوتا جیسے جواہرات، عقیق یا فیروزہ وغیرہ کی قسم کرے، یا کتابوں کے خطی نسخے وغیرہ۔ ایسے مال کے تلف ہو جائز پر ضامن کو چاہیئے ان کی قیمت مالک کو ادا کرے۔

مثلی اور قیمتی ملک کے بہت سے احکام ہیں جن پر بحث کا موقع یہاں نہیں ہے۔ خواہشمند حضرات مصنف هذا کے مقالہ به عنوان „مقبوض بے عقد فاسد“ سے رجوع فرمائیں۔

۳ - ملک کی تقسیم مالک کی وحدت و کثرت کے لحاظ سے ملک مالک کی وحدت و کثرت کے لحاظ سے دو قسم کی ہوتی ہے۔

۱ - مخصوص ملک: جب کوئی ملک کسی خاص فرد سے مختص ہو تو اس کو مخصوص ملک کہتے ہیں۔ اور ایسی ملک میں مالک کوئی رکاوٹ نہ ہوئی کی صورت میں ہر قسم کا قانونی تصرف کر سکتا ہے۔

۲ - مشترک ملک: جب ملکیت چند افراد کے درمیان مشترک ہو تو اسے مشترک ملک کہتے ہیں۔ اس صورت میں مالکوں میں سے کوئی ایک مالک دوسرے مالکوں کی اجازت کے بغیر ملک میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ ایسی ملک کو „مشاع“ (یا غیر تقسیم شدہ) ملک بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں صرف املاک کی نزدیکی منظور

نہیں ہے، بلکہ منظور و مقصود یہ ہے کہ ملکیت ایسی ہو کہ ملک کو  
کتنا ہی ثکریے کریں پھر بھی ہر جزء مالکوں کے درمیان مشترک ہو۔  
۳ - تقسیم شدہ ملک: جب مالک لوگ مشترک ملک کو اپنے اختیار  
سر یا قانونی ضرورت کے لحاظ سے اپنے درمیان تقسیم کریں تو اس  
ملک کو، „مفروز“ (یا تقسیم شدہ) ملک کہتے ہیں - اس قسم کی  
ملک میں مخصوص ملک کی طرح ہر مالک بغیر دوسرے کی اجازت  
کے ہر قسم کا تصرف جو وہ چاہئے کر سکتا ہے۔

۴ - ملک کی تقسیم قابل انتقال ہونے کے لحاظ سے  
ملک قابل انتقال یا ناقابل انتقال ہونے کے لحاظ سے دو قسم کی  
ہوتی ہے: منقول اور غیر منقول -

۱ - منقول : ایسی ملک کو کہتے ہیں جس کو ایک جگہ سے  
دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہو جیسے کتاب، کپڑے، غله جات  
وغیرہ -

۲ - غیر منقول : منقول کے برخلاف ہے جیسے اراضی، عمارتیں  
وغیرہ، غیر منقول کی دو اقسام ہیں: ذاتی غیر منقول اور تابع غیر  
منقول - ذاتی غیر منقول صرف اراضی ہے اور تابع غیر منقول ایسی  
چیزیں ہیں جو ایک یا زیادہ واسطہ سے اراضی کی تابعیت سے منتقل  
نہیں کی جا سکتیں جیسے عمارتیں، درخت، دروازے، الماریاں جو  
عمارات کے اندر ہوں -

منقول اور غیر منقول املاک بعض احکام میں ایک دوسرے سے  
مختلف ہوتی ہیں جیسے قبضہ کے اعتبار سے، چونکہ بعض معاملات  
میں جیسے واجب مرسم بیوں، عقد سے متعلق احکام اور اس کی  
خلاف ورزی جو خیار کا موجب ہوتی ہے یا بعض معاملات میں جیسے  
صَرْف اور سَلَم میں معاملہ کی صحت شرط ہے، اگر مال جس کا

معاملہ ہو رہا ہو غیر منقول ہو تو فقهاء کا قول ہے کہ اس کا قبضہ تخلیہ سے یعنی مالک کر تسلط میں رکاوٹوں کر رفع کرنے سے ہوتا ہے اور اگر منقول ہو تو بعض قبضہ کو انتقال سے ، بعض تول، وزن یا گنتی سے اور بعض تحويل (قبضہ دینے) وغیرہ سے کہتے ہیں - اکثر اوقات صحیح یہی قول ہے کہ قبضہ ہر موقع پر مال کر مالک کر تحت تسلط آ جانے سے ہوتا ہے (۱۶) - قبضہ کی ماہیت میں اختلاف کی بناء پر اکثر اوقات بعض مسائل میں جن میں قبضہ تاثیر رکھتا ہے، جیسے فروخت شدہ شے کے قبضہ سے پہلے تلف ہونے کا قاعدہ ، خیارتاخیر وغیرہ میں مختلف حکم ہوتا ہے مثلاً اگر فروخت شدہ مکان خالی کر دینے کے بعد گر جانے ، تلف ہونے کے قاعدہ کی رو سے خریدار کے ذمہ ہو گا اگرچہ وہ ابھی اس کو اپنے تصرف میں نہ لایا ہو، کیونکہ تخلیہ انجام پا چکا ہے برخلاف کتاب ، یا لباس وغیرہ کرے -

۵ - ملک کی تقسیم استعمال کے طریقہ کے لحاظ سے مملوک کر استعمال کے طریقہ کے لحاظ سے ملک دو قسم کی ہوتی ہے : کبھی ملک کا استعمال اس کے عین کے زائل ہو جانے کا باعث ہوتا ہے جیسے کھانے پینے کی اشیاء اور کبھی ایسا نہیں ہوتا جیسے گھر ، کتاب، کہ انکا استعمال عین ملک کے خاتمه کا باعث نہیں ہوتا -

پہلی قسم میں بعض تصرفات جیسے اجارہ، عاریہ صحیح نہیں ہیں کیونکہ ان تصرفات میں ضروری ہے کہ استعمال عین کے زائل ہو جانے کا باعث نہ ہو، لیکن دوسری قسم کی ملک میں ہر قسم کا تصرف جائز ہے (۱۷) -

## ۶ - ملک کی تقسیم مالک یا مملوک کی مقدار کے علم یا عدم علم کے لحاظ سے

ملک، مالک یا ملک کی مقدار کے علم یا عدم علم کے لحاظ سے چند قسم کی ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے اہم اقسام اور ان کے احکام کی طرف بہانہ اشارہ کیا جاتا ہے :

۱ - وہ ملک جس کے مالک اور مقدار دونوں معلوم ہوں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں متصرف کو چاہئیے کہ اسے اسکے مالک کو واپس کر دے۔

۲ - وہ ملک جس کا مالک معلوم ہو لیکن مقدار معلوم نہ ہو۔ ایسی صورت میں متصرف کو چاہئیے مالک سے صلح کر لے۔ اگر وہ راضی نہ ہو تو متصرف اسکی کم از کم قیمت کی ادائیگی پر قناعت کر سکتا ہے۔ اگر مالک قبول نہ کرے تو وہ حاکم کو رجوع کرے تاکہ حاکم مالک کو قبول کرنے پر مجبور کرے۔

۳ - ملک کی مقدار معلوم ہو لیکن اس کا مالک معلوم نہ ہو۔ ایسی صورت میں مالک کی طرف سے متصرف اس ملک کو صدقہ کر دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ یہ صدقہ حاکم کی اجازت سے ہو۔

۴ - ملک کا نہ مالک معلوم ہو اور نہ مقدار معلوم ہو۔ ایسی صورت میں مال کا خمس متصرف خمس کے مستحقین میں تقسیم کر دے تاکہ باقی مال اس کیلئے حلال ہو جائے۔

۵ - ملک کی مقدار معلوم ہو لیکن ملک چند افراد کے درمیان مشتبہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر ممکن ہو تو بہتر یہ ہو گا کہ ان سب کی مرضی حاصل کی جائے جن کا مالک ہونے کا احتمال ہو۔ اگر ممکن نہ ہو تو قرعہ کے ذریعہ ان سب کے درمیان مالک کا تعین کیا جائے۔ یہی حکم ہے اس صورت میں کہ مقدار معلوم نہ ہو لیکن

اگر مالک بالکل معلوم نہ ہو یا ایک غیر معین جماعت میں مشتبہ ہو تو حکم وہی ہو گا جو تیسرا قسم کرے تحت بیان کیا گیا ہے (۱۸) -

<- ملک کی تقسیم اسکے دوسروں کرے حق سے تعلق یا عدم تعلق کرے لحاظ سے

ملک اس کرے دوسروں کرے حق سے تعلق یا عدم تعلق کرے لحاظ سے دو قسم کی ہوتی ہے : آزاد ملک اور غیر آزاد ملک -

۱- آزاد ملک : اس ملک کو کہتے ہیں کہ جس سے دوسرے کا حق متعلق نہ ہو - ایسی صورت میں اس پر قبضہ کیلئے شارع یا صاحب حق کی اجازت کی صورت نہیں ہے جیسے اکٹر املاک -

۲- غیر آزاد ملک : ایسی ملک کو کہتے ہیں کہ جس سے دوسرے کا حق متعلق ہو جیسے رہن شدہ شے کا عین یا وقف شدہ شے کا عین کہ مرتهن کا حق اور متاخر بطون (بعد میں پیدا ہونے والے بچے) اس سے متعلق ہوتے ہیں - لہذا رہن شدہ شے کے عین کی بیع مرتهن کی اجازت یا مرضی پر موقوف ہوتی ہے جیسے کہ موقوفہ شے کی عین کی بیع بغیر شارع کی خاص اجازت کرے جائز نہیں ہوتی (۱۹) -

تملک کے اسباب :

تملک تفعل کرے باب سے مصدر ہے اور اس کرے معنی ملکیت کو قبول کرنا ہے - پہلے بتایا گیا ہے کہ ملکیت دو قسم کی ہوتی ہے: جبری اور اختیاری - لہذا تملک کے اسباب بھی دو قسم کرے ہوتے ہیں : جبری تملک کے اسباب اور اختیاری تملک کے اسباب -

پہلی قسم :

جبری تملک ایسا مالک ہونا ہے کہ جس میں شخص بغیر اس کرے کہ ملکیت کا قصد رکھتا ہو کسی چیز کا مالک ہو جائے - جبری ملکیت کے بارے میں اسلامی فقہ میں بعض اسباب بیان کئے گئے ہیں - جن میں سے سب سے اہم کی طرف یہاں اشارہ کیا جاتا ہے -

- ۱ - ارث : وارث مورث کی موت کرے فوراً بعد، بغیر اس کرے کہ اسکا ملکیت کا قصد ہو مرنے والے کرے ترکہ کا وارث ہو جاتا ہے۔
- ۲ - تملیکی وصیت : اگرچہ اس قسم کی وصیت فقہاء کی مشہور رائے کرے مطابق عقود کا حصہ ہوتی ہے اور، "العقود تابعة للقصد" (عقود قصدون کرے تابع ہوتی ہیں) کرے قاعدہ کی رو سے بغیر طرفین کرے قصد کرے متحقق نہیں ہوتی۔ اس صورت میں اسر اختیاری تملک کرے اسباب میں شمار کرنا چاہئے لیکن فقہاء نے تملیکی وصیت خاص طور پر وصیت برائے مقاصد و مفادات عمومی (یعنی قانونی شخصیتوں کرے حق میں وصیت) کو، "ایقاع" کہا ہے اور ان کرے نزدیک اس میں موصیٰ لہ (جس کرے حق میں وصیت کی گئی ہو) کرے قصد اور مرضی کی شرط نہیں رکھی ہے (۲۰)۔ اس صورت میں اس کو جبری تملک کرے اسباب میں شمار کرنا چاہئے۔ بہرحال موصیٰ کی طرف سے تملیک اختیاری ہو گئی خواہ تملیکی وصیت کو عقد جانیں یا ایقاع۔ مختصر یہ کہ تملیکی وصیت اس سبب سے کہ ایقاع ہو اختیاری تملیک ہے اور جبری تملک ہے۔
- ۳ - خاص وقف: یہ بھی اس سبب سے کہ مطلق طور پر یا کم از کم خاص موقع پر، "ایقاع" ہوتا ہے (۲۱) جیسے تملیکی وصیت واقف (وقف کرنے والے) کی طرف سے ایک اختیاری تملیک ہوتی ہے، لیکن موقوف علیہ کی طرف سے چونکہ اس کا قصد تملک نہیں ہے جبری تملک ہوتا ہے۔
- ۴ - اجنبی کرے تملک کی شرط: یہ بھی نتیجہ کی شرط کرے طور پر اجنبی شخص کرے جبری تملک کرے اسباب میں سے ہے۔ مثلاً اگر زید عمر و کرے ساتھ کوئی گھر بیچ جو اور عقد میں یہ شرط رکھیں کہ کوئی دوسرا شخص عمر و کی کتاب کا مالک ہو اس صورت میں مشروط

(جس کرے حق میں شرط رکھی گئی ہے) اس وجہ سے کہ اس کا مقصد عمر و کی کتاب کی ملکیت نہیں ہے، اس کی کتاب کا مالک ہو جائز گا (۲۲) -

۶۔ ۵ - کے جبری تملک کرے بعض دوسرے اسباب بھی ہیں جن میں سے بعض کی طرف مختصر طور پر بیہان اشارہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً شفعہ کی بنیاد پر قیمت کا تملک - اگر زید اور عمر و ایک گھر میں شریک ہوں اور زید اپنا حصہ بغیر اس کرے کہ عمر و سے مشورہ کرے ایک تیسرا شخص کرے ہاتھ بیچ دے تو اس صورت میں اگر عمر و اپنے حق شفعہ کو استعمال کرے تو زید کا حصہ اس کو منتقل ہو جائز گا اور خریدار اس کی قیمت کا جبراً مالک ہو جائز گا۔ اس طرح شکار، احیاء موات (بنجر زمینوں کو آباد کرنا) یا مباح چیزوں پر قبضہ، اگر تملک کا قصد ان کے ذریعہ سے ملک کرے وجود میں آنے کی شرط نہ ہو (۲۳)، تب بھی وہ ایسے اسباب میں سے ہیں کہ ان کے سلسلہ میں بلا واسطہ طور پر ملکیت کا قصد نہیں ہوتا، سوانح اس کے کہ کہا جائز کہ ان افعال کا قصد خود بالواسطہ طور پر تملک کا قصد ہوتا ہے اور یہی اختیاری ہونے میں کافی ہے۔

دوسری قسم :

اختیاری تملک، یعنی کسی چیز کا مالک ہونا، مالک ہونے کی نیت سے، دو قسم کا ہوتا ہے : عقدی اور غیر عقدی -

۱ - غیر عقدی اختیاری تملک: جیسے غیر پالتو جانوروں کا شکار، بنجر زمینوں کو آباد کرنا، مباح چیزوں پر قبضہ بشرطی کہ تملک کا قصد ہو، یا خود ان افعال سے تملک کا لزوم - اسی طرح ہے حق شفعہ کے استعمال کے نتیجہ میں شریک کرے حصہ کا مالک ہونا (۲۴) مومن کا عمل رضا کارانہ طور پر قصد نہ ہونے کی حالت میں اور بہت سے دوسرے موقع -

۲ - عقدی اختیاری تملک: یہ بھی تملک کی اقسام میں سر ہے اور اس کی بھی چند قسمیں ہیں کہ ایک مقدمہ کرے بعد ان سب میں سر اہم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

مقدمہ: عمومی اور مطلق احکام کا جو عقد اور تجارت کی صحت کرے بارے میں ہیں جیسے، "اوفوا بالعقود" (۲۵) اور "تجارة عن تراض" (۲۶) وغیرہ جس طرح ان کا اطلاق معین عقود پر ہوتا ہے، یعنی ایسے عقود جو ان احکام کے نزول کے وقت تھے اسی طرح ان کا اطلاق ان عقود پر ہوتا ہے جو بعد کرے زمانہ میں واقع ہوئے ہیں۔ لہذا جس طرح ان کا اطلاق بیع، صلح اور اجارہ وغیرہ پر ہوتا ہے اسی طرح یہ، ضمانت اور حوالہ کی اقسام پر بھی اطلاق ہوتا ہے جو بعد کرے زمانوں میں واقع ہوئے ہیں۔ لہذا کوئی سبب نہیں کہ تملک کرے اسباب کو خاص عقود تک محدود رکھا جائے۔ باوجود اس کے مناسب ہوگا کہ ان میں سے عقدی تملک کے بعض مشہور اہم ترین اسباب کی طرف فہرست وار اشارہ کیا جائے۔

جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے اس قسم کے عقود کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عین کرے تملک کرے اسباب، منفعت کرے تملک کرے اسباب اور انتفاع (استفادہ) کرے تملک کرے اسباب۔

قسم اول: خود اس کی تین قسمیں ہیں: وہ جو صرف عین کرے تملک کیلئے مفید ہے، وہ جو اس سے زیادہ عام ہے اور آخر میں وہ جس کا ہدف کوئی دوسری چیز ہوتی ہے لیکن عین کی ملکیت بھی اس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہاں ان اقسام کی مثالوں اور ساتھ ہی ان تینوں گروہوں میں سے ہر ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

۱ - عقد بیع: سب سے اہم اور مشہور عقد جو بلا واسطہ طور پر عین کی تملیک اور تملک میں مفید ہوتا ہے عقد بیع ہے۔ اس عقد

میں اگرچہ قیمت کرے معاملہ میں عین ہونا مشروط نہیں ہے لیکن قیمت والی چیز یعنی فروخت شدہ شر کرے معاملہ میں عین ہونا شیعہ امامیہ کرے نزدیک تقریباً متفق ہے اس طرح کہ بہت سے عقلاء نے بع کی تعریف میں ان معنی کو روشن طریقہ پر اختیار کیا ہے۔ اس عقد میں خود عقد کرے لحاظ سر عقد کرنے والوں اور عوض دینے والوں کے سلسلہ میں بعض شرائط ضروری سمجھی گئی ہیں جیسے (صیغہ عقد کا) عربی الفاظ اور ماضی میں ادا کرنا وغیرہ، لیکن چونکہ اکثر ان شرائط کی بنیاد معتبر دلیل پر نہیں ہے، لہذا صحت کی ادله کرے مطلق ہونے کے سبب ان امور کے شرط ہونے کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔

۲۔ ہبہ اور صدقہ : یہ بھی عین کرے تملک اور تملیک کرے اسباب میں سر ہیں البتہ ایجاد و قبول کرے علاوہ قبضہ بھی ہبہ اور صدقہ کی صحت کی شرط ہے (۲۷)۔

۳۔ قرض : یہ بھی قرض لی ہونی شر کرے عین کرے تملک کا سبب ہے۔ اس عقد کی صحت میں بھی ہبہ اور صدقہ کی طرح قبضہ کی شرط ہے (۲۸)۔

۴۔ خاص وقف : اگرچہ بعض فقہاء نے اس کرے عقد ہونے کے بارے میں شک کیا ہے، لیکن مشہور رائے کرے مطابق اس کو ایسا عقد جانا گیا ہے جو تملیک میں مفید ہے۔ البتہ یہ ملکیت ایک خاص ملکیت ہے کہ جس کی رو سے مالک اس میں ہر قسم کا تصرف نہیں کر سکتا۔ اس عقد کی صحت یا لزوم کیلئے بھی قبضہ شرط ہے (۲۹)۔

۵۔ <۔ مضاربہ، مزارعہ اور مساقات : یہ عقود بھی عامل کرے اس مشترک حصہ کرے اختیاری تملک کا سبب ہوتے ہیں جن کی منافع، زراعت کی پیداوار یا باغ کرے پہلوں میں سر عقد میں شرط

رکھی گئی ہو۔ منافع، زراعتی پیداوار اور پہل اگرچہ ایک اعتبار سے منافع ہی ہیں، لیکن جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا یہ منافع رفتہ رفتہ عین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

۸۔ صلح: اس عقد سے تمام عقدوں کے نتیجہ برآمد ہو سکتے ہیں۔ لہذا شیخ طوسی کی رائیر میں یہ عقد مستقل (علیحدہ) عقد نہیں بلکہ انہوں نے اس کو بیع، ہبہ، اجارہ، عاریہ و ابراء کی شاخ شمار کیا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ عقود کے نتائج برآمد ہونا اس کے فرع (شاخ) ہونے کی دلیل نہیں ہے (۳۰)۔ اس عقد کا منشاء توافق اور تسامم (باہم سپردگی) ہے اور یہ اس چیز کے علاوہ ہے جو دوسرے عقدوں کا منشاء ہوتا ہے۔ لہذا یہ ایک مستقل (علیحدہ) عقد ہے۔ اگرچہ اس سے دوسرے عقود کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اس عقد سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں ان میں سے عین کی تملیک اور تملک بھی ہے۔

۹۔ تملیکی وصیت: جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا بعض فقهاء نے تملیکی وصیت کے عقد ہونے میں شک کا اظہار کیا ہے، لیکن بلاشک مشہور رائے کے مطابق تملیکی وصیت عقد ہے اور اس کا اثر کبھی عین (کا تملک) اور کبھی منفعت کا اور کبھی انتفاع کا تملک ہوتا ہے لہذا اس کے نتائج میں سے ایک جو غالباً مترتب ہوتا ہے موصیٰ لہ کا عین کا مالک ہونا ہے۔

۱۰۔ عقد نکاح: بعض ایسے عقود ہیں جن کا اصلی مقصد کسی چیز کا تملک یا تملیک نہیں ہوتا لیکن بلاشک کبھی ان سے یہ نتیجہ بھی برآمد ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک عقد نکاح ہے کہ اس کا اصلی مقصد ازدواجی رشتہ کی برقراری ہے، لیکن اگر مهر عیون میں سے کسی عین کو قرار دیا گیا ہو تو بیوی عقد کے انجام پاتھ ہی اس عین کی مالک ہو جاتی ہے۔ البته یہ ملکیت ایک متزلزل ملکیت ہے۔ وہ

اس وقت قرار پاتی ہے کہ جب دخول انجام پا جائے یا شوہر فطری مرتد ہو یا ان دونوں (بیوی اور شوہر) میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو جائے (۳۱)۔ اگر شوہر دخول سے پہلے زوجہ کو طلاق دے دے تو بیوی کا حق میرہ میں سے صرف آدھا قرار پاتا ہے اور دوسرا آدھا شوہر کی ملکیت ہوتا ہے (۳۲)۔

۱۱ - سبق اور رمایہ : سبق (گھوڑ دوڑ، اونٹ دوڑ وغیرہ) اور رمایہ (تیر اندازی وغیرہ کا مقابلہ) بھی عقدوں میں سے ہیں۔ اگرچہ ان کا اصلی مقصد عین کی ملکیت نہیں لیکن بلاشک اگر، "سبق" واقع ہو تو شرط کے مطابق، "سابق" عین کا مالک ہو جاتا ہے، جبکہ عقد میں، "حق سبق" رکھا گیا ہو۔

۱۲ - اجارہ اور جعالہ : ان میں بھی اصل مقصد منفعت یا عمل کی تملیک ہے، لیکن اگر اعیان میں سے کوئی عین مال اجارہ یا جعالہ کے مال کے طور پر مقرر کیا جائے تو مستاجر (کرایہ دار)، اجیر (مزدور) اور عامل (ایجنت) عقد کے قرار پاتے ہی، یا عقد کے متعلقہ عمل کے انجام پاتے ہی، اس عین کا مالک ہو جائے گا۔

اختتامی اشارہ :

آخر میں اس نکتہ کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ ملکیت کی بحث بہت سے دوسرے مسائل پر بھی مشتمل ہے کہ جن کا ذکر یہاں جگہ کی تنگی کے سبب نہیں کیا جا رہا جیسے عدم ملکیت کا اصول، "من ملک شینا ملک الاقرار به" (جو کسی شے کا مالک ہو وہ اس کے اقرار کا بھی مالک ہوتا ہے) کا قاعدہ، احیاء کی صورت میں ملک عین ہے یا انتفاع، امام (ع) کی ملک، افال، امام کا حصہ، فی، غنائم وغیرہ۔ صرف اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ امام کی ملک چند قسم کی ہے۔ ذاتی ملک: جیسے وہ ملک جو بیع،

ذاتی ملک : جیسے وہ ملک جو بیع، صلح، ارت وغیرہ کے ذریعہ حاصل کی گئی ہو۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی ملک میں وہ دوسروں کی طرح ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے اور اس کی وفات کی صورت میں وہ ملک اس کے ورثاء کو منتقل ہو جائے گی ۔

امام کی ملک قوم کے رہبر کی حیثیت سے : اس قسم کی ملک امام کی وفات کے بعد دوسرے امام کو منتقل ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ بالفرض پچھلے امام کا وارث بھی نہ ہو اور (امام مہدی کی) غیبت کے زمانہ میں (ایسی ملک) اسلامی حکومت کے اختیار میں رہی گی، جیسے انفال وغیرہ ۔

عوام کی ملک جو امام کے تصرف میں ولی ہونے کی حیثیت سے ہوتی ہے : اس قسم کی ملک بھی اسلامی حکومت کے اختیار میں ہو گی اور اس کو مسلمانوں کے فائدہ میں صرف کیا جائے گا۔ یہاں اس نکتہ کی یاد آوری بھی بجا ہو گی کہ کچھ دوسرے اسباب بھی عقد اور غیر عقد کے موجود ہیں کہ ممکن ہے ان کے ذریعہ سے اعیان کا تملک واقع ہو لیکن فائدہ کی قلت اور طول کلام سے پرہیز کی وجہ سے ان کو یہاں بیان نہیں کیا جا رہا جیسے جنگی غنائم کی تقسیم، جزیہ کا عقد وغیرہ ۔

دوسری قسم : ایسے عقود جو بلاواسطہ یا بالواسطہ طور پر منافع کے اختیاری تملک کا باعث ہوتے ہیں ۔ وہ فہرست وار حسب ذیل عقود پر مشتمل ہیں : عقد اجارہ ، عقد جعالہ ، عقد سکونت ، عقد آبادی (زمین) اور حبس (اس صورت میں کہ ان آخری تین اسباب کو منفعت کے تملک کا باعث مانا جائے ) ، منفعت کی صلح، منافع کی وصیت ، نکاح اس صورت میں جب مهر کو منفعت قرار دیا جائے، سبق (گھوڑ دوڑ اونٹ دوڑ وغیرہ) اور تیر اندازی (وغیرہ) کا مقابلہ جب کہ ان کے معاوضہ کو منفعت قرار دیا جائے ، وغیرہ ۔

تیسرا قسم: ایسے عقود جو بلاواسطہ یا بالواسطہ طور پر انتفاع کر تملیک کا سبب ہوتے ہیں جو فہرست وار حسب ذیل عقود پر مشتمل ہیں : عاریہ ، انتفاع پر صلح، حق انتفاع کی وصیت ، ایسا نکاح جس میں مهر حق انتفاع ہو ، عقد سکونت، عقد آبادی (زمین)، حبس، مشہور قول کر مطابق ، وغيرہ -

## حوالہ جات

- ۱ - ملاحظہ ہو قاموس ، لسان العرب اور اقرب الموارد -
- ۲ - رسائل اصول عملیہ ، استصحاب احکام وضیہ .
- ۳ - مکاسب مع حاشیہ، ص ۱۲۶ اور منیۃ الطالب، ج ۱، ص ۳۵ -
- ۴ - حاشیہ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی برمکاسب ، آغاز بیع -
- ۵ - کفایہ مع حاشیہ مشکینی ، ج ۲ ، ص ۲۰۰ -
- ۶ - ملاحظہ ہو : „ مصباح الفقاهہ“ ج ۲ ، ص ۲۳ -
- ۷ - حاشیہ ایروانی برمکاسب ، ص ۱۳۵ -
- ۸ - سورہ مائدہ، آیہ ۲۵ -
- ۹ - شرح منظومہ سیزوواری ، حکمت ، ص ۱۳۸ -
- ۱۰ - عین کی معنی کر لئے ملاحظہ ہو قاموس ، صحاح وغیرہ -
- ۱۱ - ملاحظہ ہو مصباح المنیر وغیرہ -
- ۱۲ - متصدیہ قاعدة اس قاعدة کو کہتے ہیں جو خود کلی قاعدة کی حیثیت سے کسی آیت یا روایت سے مستند نہیں ہے۔ بلکہ ایسی ادله سے حاصل ہوتا ہے جو کسی خاص موقع کیلئے وارد ہوئی ہیں مع ان قرائن اور شواہد کر کہ جن کا حکم کسی خاص موقع سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ایک کلی قاعدة ہے جو تمام موقع پر منطبق ہوتا ہے، جیسے انلاف یا تسبیب کا قاعدة ، قبضہ کا قاعدة (قاعدة حیازت) بھی اسی قسم سے ہے۔ اس کی سند وہ روایتیں ہیں جو غالباً رسول اللہ (ص) سے منقول ہیں اور شیعہ اور اہل سنت کی بعض کتابوں میں مذکور ہیں۔ انہیں سے حسب ذیل روایت ہے : „ من سبق الى مالم يسبق اليه مسلم فهو احق به ( یا فهو له )“، جو ایسی چیز پر پہلی قبضہ کر لی جس پر کوئی دوسرا مسلمان اس سے پہلی قبض نہ ہوا ہو تو وہ اس کا زیادہ مستحق ہوگا یا وہ چیز اس کی ہوگی ) -
- ۱۳ - ملاحظہ ہو آغاز احیاء موات ، مبسوط ، مستدرک إلرسائل ج ۳ باب اول احیاء موات ص ۱۳۹ ، سنن بیہقی ج ۲ ص ۱۳۲ -

- ۱۳ - قبضہ سے ملکیت کرے حصول کرے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض محض قبضہ کو اس میں کافی سمجھتے ہیں اور بعض کر نزدیک اس کر علاوہ ملکیت کرے قصد کی بھی شرط ہے (ملاحظہ ہو کتاب جواہر الكلام ، بحث احیاء موات ) -
- ۱۴ - وصیت اور وقف اس صورت میں جبری ملکیت کرے اسباب میں سر ہونگے جب ہم انکو ، «ایقاع» ، شمار کریں یا کم از کم بعض موقع پر، ورنہ اگر وہ عقد ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کو اختیاری ملکیت کرے اسباب میں شمار کرنا جائز -
- ۱۵ - ملاحظہ ہو : «نهج الفقاهہ» ص ۳۲۵ -
- ۱۶ - ملاحظہ ہوں فقہی کتابیں خصوصاً مکاسب ، قبضہ کی بحث -
- ۱۷ - ملاحظہ ہوں فقہی کتابیں خاص طور پر جواہر (الكلام) میں اجارة اور عاریہ کی بحث عقد میں عین کی شرط -
- ۱۸ - اس بارے میں ملاحظہ ہو : عروة الوثقی : حرام سے مخلوط مال کا خمس، مستمسک ج ۶ : حرام سے مخلوط مال کا خمس، منہاج تالیف آیت اللہ خونی ج ۱ : حرام سے مخلوط مال کا خمس -
- ۱۹ - مکاسب : عوضین کی شروط کی ابتداء -
- ۲۰ - عروة الوثقی : وصیت کی ابتداء، مصباح الفقاهہ ج ۲ ، ص < -
- ۲۱ - مصباح الفقاهہ ج ۲ ، ص > ، شرح لمعہ : وقف -
- ۲۲ - مکاسب تالیف شیخ انصاری : خیارات ، شروطہ اقسام شرط -
- ۲۳ - مصباح الفقاهہ ج ۲ ص < -
- ۲۴ - شرح لمعہ اور جواہر (الكلام) : شکار اور بنجر زمینوں کو آباد کرنا -
- ۲۵ - سورۃ مائدہ ، آیہ ۱ -
- ۲۶ - سورۃ نسام ، آیہ ۲۹ -
- ۲۷ - شرح لمعہ : عطیہ ، صدقہ اور هبہ -
- ۲۸ - شرح لمعہ : دین ، قرض -
- ۲۹ - لمعہ اور شرح لمعہ : وقف کا ابتدائی حصہ -
- ۳۰ - لمعہ اور شرح لمعہ : صلح ، شرح لمعہ : .. وهو اصل فی نفسه .. (اور وہ خود اپنی جگہ اصل ہے) -
- ۳۱ - ۳۲ - شرح لمعہ : مهر ، دس مسئللوں میں سر بہلا مستہلہ -